

India condoles the untimely demise of former Prime Minister of Japan, H.E. Mr. Abe Shinzo

July 08, 2022

ہندوستان کا جاپان کے سابق وزیر اعظم عزت مآب شینزو ایبے کے بے وقت انتقال پر تعزیت کا اظہار

08 جولائی، 2022

ہندوستان کی حکومت اور عوام جاپان کے سابق وزیر اعظم عزت مآب شینزو ایبے کے بے وقت انتقال کی وجہ سے گہرے طور پر غمزدہ ہیں، اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں اور جاپان کے لوگوں کے تئیں اپنی مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔

جناب ایبے ایک وژنری رہنما اور مدبر تھے، جنہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے انتہک محنت کی۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔

وزیر اعظم کے طور پر اگست 2007 میں ہندوستان کے دورے کے دوران، جناب ایبے نے ہندوستانی پارلیمنٹ میں اپنی مشہور "دو سمندروں کا سنگم" تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور جاپان کے تعلقات دنیا میں کہیں بھی دو طرفہ ترقی کی سب سے بڑے امکانات سے سرشار ہیں۔ ان کی کوششوں نے ہماری قوموں کو ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند۔ بحرالکاہل کے حصول کے لئے اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

جناب ایبے کی بے پناہ کوششوں نے ہندوستان۔ جاپان تعلقات کو ایک خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کے طور پر ان کے دور میں ہندوستان اور جاپان کے درمیان سنگ میل کی ایک بڑی تعداد میں منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ جناب ایبے کو ہندوستان کے دوسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز پدم وبھوشن سے نوازا جانا اس احترام اور گرمجوشی کا ثبوت ہے جس سے انہوں نے ہندوستان میں پایا ہے۔

جناب ایبے نے 2022 میں جاپان انڈیا پارلیمانی فرینڈشپ لیگ اور جاپان انڈیا ایسوسی ایشن دونوں کی قیادت سنبھالی تھی، جو انڈیا-جاپان شراکت داری کو تقویت دینے کے لیے ان کی گہری وابستگی کا عکاس ہے۔

ہندوستان کے ایک عظیم دوست کے کھو جانے کا احساس پورے ملک میں ہوا ہے۔ آج، پورا ہندوستان جاپان کے ساتھ سوگوار ہے اور ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے جاپانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کے لیے ہمارے گہرے احترام کے نشان کے طور پر، 9 جولائی 2022 کو ایک دن کا قومی سوگ منایا جائے گا۔

نئی دہلی

08 جولائی، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.